



سوال

(09) حدیث قدسی کسے کہتے ہیں۔ مفصل جواب عنایت فرمائیں۔؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حدیث قدسی کسے کہتے ہیں۔ مفصل جواب عنایت فرمائیں۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حدیث قدسی کی دو تعریفیں مشہور ہیں۔

ایک یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف نسبت کریں۔ خواہ صیغہ غائب ہی ہو۔ جیسے

عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدي بی وانا معہ اذا ذکرنی الحدیث (مشکوٰۃ باب ذکر اللہ الخ)

دوسری یہ کہ اللہ براہ راست بندوں کو خطاب کرے۔ جیسے

عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما رویہ عن اللہ تبارک و تعالیٰ انه قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ ینکم محرماً فلا تظالموا الحدیث (مشکوٰۃ باب الا
ستغفار الخ)

نوٹ

اس میں اختلاف ہے کہ الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور مطلب خدا کا ظاہر یہی ہے۔ کہ الفاظ بھی خدا کے ہوتے ہیں۔ صرف ان میں اعجاز نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن مجید میں اعجاز ہے۔ اگر الفاظ خدا کے نہ ہوں۔ اور مطلب خدا کا ہو۔ تو پھر حدیث قدسی اور دوسری حدیثوں میں یہ فرق ہوگا۔ کہ حدیث قدسی میں خدا کی طرف نسبت کی تصریح ہوتی ہے۔ جیسے اضافت تشریفی (بیت اللہ۔ ناقۃ اللہ۔ وغیرہ) ورنہ مطلب کے لحاظ سے سب احادیث خدا کی طرف سے ہیں۔ (اخبار اہل حدیث سوہدرہ ج 13 شماره 3)

خدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب



فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 12 ص 120

محدث فتویٰ